



## صحيح راستہ اختيار کرو اور جان رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ سوال کیا: اے اللہ کہ رسول! آپ بھی نہیں؟ آپ نہ جواب دیا: "میں بھی نہیں! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے مجھے ڈھانپ لے"

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہ رسول! نہ فرمایا: "صحيح راستہ اختيار کرو اور جان رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ سوال کیا: اے اللہ کہ رسول! آپ بھی نہیں؟ آپ نہ جواب دیا: "میں بھی نہیں! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے مجھے ڈھانپ لے"

[صحيح] [متفق علیہ]

اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نہ صحابہ کو اس بات کی ترغیب دی کہ عمل کرتے رہیں، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہیں، ان کے عمل کا مقصد حق جوئی ہو، بایں طور کہ اخلاص الہی اور اتباع سنت کے ساتھ عمل کریں، تاکہ ان کے اعمال قبول ہوں اور نزول رحمت کا سبب بنیں اس کے بعد اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ و سلم نہ بتایا کہ فقط تم میں سے کسی کا عمل اس نجات نہیں دلا سکتا بلکہ اللہ کی رحمت شامل حال ہونا ضروری ہے صحابہ نہ پوچھا: اے اللہ کہ رسول! آپ کے اتنے سارے اعمال بھی آپ کو نجات نہیں دلا سکتے؟ جواب دیا: مجھے بھی نہیں، جب تک کہ اللہ اپنے فضل و رحمت کی چادر مجھ پر نہ پھیلا دے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3469>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

